

# Prime Minister's participation in the Quad Leaders' Summit

September 24, 2021

## کواڈ لیڈرز سمٹ میں وزیر اعظم کی شرکت

24 ستمبر، 2021

وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے 24 ستمبر 2021 کو آسٹریلیا کے وزیر اعظم سکاٹ موريسن، جاپان کے وزیر اعظم یوشی ہائیڈے سوگا اور امریکہ کے صدر جوزف بائیڈن کے ہمراہ واشنگٹن ڈی سی، امریکہ میں پہلی شخصی کواڈ لیڈرز سمٹ میں شرکت کی۔ قائدین کے درمیان مفید تبادلہ خیال ہوا جس نے مشترکہ مفادات، اقدار اور بنیادی اصولوں کو تقویت دی جس پر کواڈ فریم ورک منحصر ہے۔

2۔ رہنماؤں نے افغانستان اور جنوبی ایشیا اور ہند بحر الکاہل کی علاقائی صورتحال پر اپنے متعلقہ نقطہ نظر کو شیئر کیا۔ افغانستان کے بارے میں، انہوں نے انسداد دہشت گردی، انسانی امداد میں اپنے تعاون کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق کیا، اور طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2593 کی پابندی کریں۔

3۔ رہنماؤں نے دہشت گردوں کے پراکسیوں کے استعمال کی مذمت کی، اور دہشت گرد گروہوں کو کسی قسم کی لاجسٹک، مالی یا عسکری مدد سے انکار کرنے کی اہمیت پر زور دیا جو کہ سرحد پار حملوں سمیت دہشت گردانہ حملے کرنے یا اس کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

4۔ کواڈ لیڈرز نے مارچ 2021 کے سربراہی اجلاس کے بعد سے ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا، خاص طور پر کووڈ 19 ویکسین کی شراکت داری کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا کہ بھارت ہند۔ بحر الکاہل خطے میں بھارت ساختہ کووڈ 19 ویکسین کی فراہمی آٹھ ملین خوراکیوں کے ساتھ اکتوبر 2021 سے شروع کرے گا۔ بین الاقوامی سفر کو معمول پر لانے اور پیش گوئی کو یقینی بنانے کے مقصد کے ساتھ، وزیر اعظم نے ممالک کے مابین مشترکہ سفری اصول اور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی باہمی منظوری کے حوالے سے تجویز پیش کی۔

5۔ قائدین نے موسمیاتی تبدیلی، جہاز رانی اور بندرگاہ کے کاموں میں ڈی کاربونائزیشن کی کوششوں، صاف ہائیڈروجن ٹیکنالوجی کی تعیناتی، ذمہ دارانہ اور لچکدار صاف توانائی کی فراہمی کی سپلائی چین کی ضرورت کے حوالے سے مثبت اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس تناظر میں، وزیر اعظم نے ہمارے اپنے متعلقہ طاقتوں اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ایک عالمی گرین ہائیڈروجن اتحاد کی تجویز پیش کی۔ رہنماؤں نے ایک شپنگ ٹاسک فورس بھی لانچ کی جو شپنگ ویلیو چین کے گریننگ اور ڈی کاربونائزنگ کے کام کو مربوط کرے گی۔ ممبئی پورٹ ٹرسٹ اس اقدام میں دیگر تین کواڈ ممالک کی بندرگاہوں کے ساتھ شراکت میں کام کرے گا۔

6. قائدین نے ٹیکنالوجی ڈیزائن، ترقی، حکمرانی اور استعمال کے بارے میں کواڈ اصول جاری کیے جو نہ صرف خطے بلکہ دنیا کو ذمہ دار، کھلے، اعلیٰ معیار کی جدت کاری کی طرف رہنمائی کریں گے۔

7. عوام سے عوام کے مابین روابط کی سہولت پہنچانے اور اسے مضبوط بنانے کے لیے، رہنماؤں نے امریکہ میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضیات (STEM) کے شعبوں میں ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہر سال 100 طلباء کے لیے فیلوشپ پروگرام کا اعلان کیا۔

8. ایک کواڈ انفراسٹرکچر کوآرڈینیشن گروپ شروع کیا گیا تاکہ علاقائی بنیادی ڈھانچے کی ضروریات کا جائزہ لیا جا سکے اور نقطہ نظر، تکنیکی مدد اور صلاحیت سازی کی کوششوں کو مربوط کیا جا سکے۔

9. رہنماؤں نے ایک خلائی تعاون ورکنگ گروپ بھی تشکیل دیا تاکہ موسمیاتی تبدیلی، آفات کی تیاریوں کی نگرانی اور اس سے نمٹنے، اور مشترکہ ڈومینز میں چیلنجوں کا جواب دینے کے لیے سیٹلائٹ ڈیٹا کا تبادلہ کیا جاسکے۔

10. سربراہی اجلاس قائدین کے لیے ایک موقع تھا کہ وہ کواڈ کی مثبت رفتار اور اس کے تعمیری ایجنڈے کو عالمی سطح پر بھلائی کے لیے ایک قوت بنائیں۔ قائدین نے ایک آزاد، کھلے اور جامع ہند بحر الکابل خطے کے لیے اپنے عزم اور مشترکہ وژن کا اعادہ کیا۔ انہوں نے باقاعدہ رابطہ برقرار رکھنے اور اعلیٰ سطحی بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔

سمٹ کے نتائج کی دستاویزات

الف۔ مشترکہ بیان

ب۔ حقائق پر مبنی شیٹ

ج ٹیکنالوجی ڈیزائن، ڈویلپمنٹ اور گورننس کے اصولوں کی صورت

واشنگٹن ڈی سی

24 ستمبر، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.